



## جب تم میں سے کوئی کسی چیز کو ستر بنا کر اس کی طرف نماز پڑھ رہا ہو، اور کوئی اس کے آگے سے گزرنے کی کوشش کرے تو اسے روک دے اگر وہ انکار کرے تو اس سے لڑے، کیونکہ وہ شیطان ہے

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی کسی چیز کی طرف نماز پڑھ رہا ہو، جو اس کے لیے لوگوں سے ستر ہو اور کوئی اس کے آگے سے گزرنے کی کوشش کرے تو اسے روک دے اگر وہ انکار کرے تو اس سے لڑائی کرے، بلاشبہ وہ شیطان ہے“ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ: ”جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو کسی کو آگے سے گزرنے نہ دے اور اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑائی کرے کیوں کہ اس کے ساتھ (شیطان) ہے“

[صحیح] [اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے - متفق علیہ]

جب نمازی اپنی نماز میں داخل ہو اور وہ اپنے سامنے لوگوں سے ستر رکھے ہوئے ہو تاکہ لوگ اس کے آگے سے گزر کر اس کی نماز میں نقص نہ پیدا کریں اور جب وہ اپنے رب سے مناجات کرنے لگے پھر اس کے سامنے سے کوئی شخص گزرنے کی کوشش کرے تو اس کو اچھے طریقے سے روکے، اگر وہ آرام و سکون سے نہیں رکتا تو اس کی حرمت ختم ہوئی وہ سرکشی کرنے والا بن چکا اور اب جائز ہے کہ اس کی سرکشی کو ہاتھ سے لڑائی کر کے روکا جائے، کیوں کہ اس کا یہ عمل ان شیطانی افعال میں سے ہے جن کے ذریعے وہ لوگوں کی عبادتوں کو خراب کرنا چاہتا ہے، اور ان کی نمازوں میں تلبیس و شکوک پیدا کرتے ہیں

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/10871>



النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

